

برائے فوری اجراء

## سٹی کے سال 2019 کے بجٹ کو اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا

برامپٹن، آن (6 دسمبر 2019) – سٹی آف برامپٹن کے منظور شدہ آپریٹنگ اینڈ کیپیٹل بجٹ 2019 کو گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا (GFOA) کی جانب سے دی ڈسٹنگووشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

دی ڈسٹنگووشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ حکومتی بجٹ سازی کے حوالے سے GFOA کا سب سے اعلیٰ درجے کا اعزاز ہے۔ یہ مسلسل چوتھا سال ہے کہ سٹی نے اس ایوارڈ کے لیے درخواست دی ہے اور اسے حاصل کیا ہے۔ یہ مالیاتی شفافیت اور اچھی طرز حکمرانی میں ایک اہم کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔

سٹی نے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر تسلیم شدہ رہنما ہدایات کو پورا کیا ہے۔ اس ایوارڈ کی رہنما ہدایات کی روشنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پالیسی ڈاکومنٹ، فنانشل پلان، آپریشنز گائیڈ اور کمیونیکیشن ڈیوانس کے طور پر کوئی بجٹ پلان کس حد تک خدمات فراہم کرتا ہے۔

### اقتباسات

"سٹی کا بجٹ پلان کرنا ایک اجتماعی کاوش ہوتی ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو معلومات افزاء، باہم مربوط اور شفاف طریقے سے بجٹ سازی کے تمام مراحل سے وابستہ رکھا جاتا ہے۔ ہم 2019-2021 کے بجٹ کے ایوارڈ کو اپنے رہنمائی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے نام کرتے ہیں جنہوں نے ایک ایسا بجٹ بنانے میں ہماری مدد کی ہے، جس سے اوسط ٹیکس صفر فیصد بڑھا ہے جبکہ ایسا تقریباً پچھلے 20 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

ہمیں خوشی ہے کہ یہ ایوارڈ سٹی کے بہترین مالی انتظامات کے عزم پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ مالیاتی رپورٹنگ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے علاوہ، بجٹ کے عمل کو مزید ہموار، عیاں اور قابلِ احتساب بنانے کے لیے ہم سخت کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم 2020 کے بجٹ کی بحث کے عمل سے گزر رہے ہیں، لہذا ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر ہونے کے ناطے، ہم اپنی آپریشنل کارکردگیوں کے حصول کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابلِ استحکام اور کامیاب ہو ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)